

Ref: MISIL/AGM/POSTAL BALLOT/2023

October 19, 2023

The General Manager

Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.
By PUCARS & Courier

SUBJECT: PROCEDURE FOR VOTING THROUGH E-VOTING FACILITY & VOTING THROUGH BALLOT PAPER
(PRIOR TO PUBLICATION)

Dear Sir,

In continuation to the Notice of Annual General Meeting (AGM) of MUGHAL IRON & STEEL INDUSTRIES LIMITED ("the Company") scheduled to be held on October 28, 2023 at 11:45 a.m at Pearl Continental Hotel, Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore, and in accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("the Regulations"), the right to vote through electronic voting facility ("E-voting") and voting by post ("Ballot Paper") is being provided to the members of the Company in respect of special business to be transacted at the AGM which can be used alternately. M/s. Digital Custodian Company Limited has been appointed as E-voting service provider.

Accordingly, please find attached procedure for e-voting and voting through ballot paper along with copy of Ballot Paper prior to publication in Business Recorder (English) and Nawa-i-Waqt (Urdu) on Friday, October 20, 2023.

You may please inform the TRE certificate holders of Exchange accordingly.

Yours Sincerely,

For **MUGHAL IRON & STEEL INDUSTRIES LIMITED**



MUHAMMAD FAHAD HAFEEZ
(Company Secretary)



CC: **The Director / HOD**

(Surveillance, Supervision and Enforcement Department),
Securities & Exchange Commission of Pakistan,
Islamabad.



REGISTERED OFFICE:

31-A, Shadman -1, Lahore.
Office: +92-42-35960841-3
Fax: +92-42-35960846
E-mail: fahadhafeez@mughalsteel.com
Website: www.mughalsteel.com

NTN #: 3533975-6

STRN #: 03-06-7326-012-82

WORKS:

17- K.M, Sheikhpura Road, Sheikhpura.
Tel: +92-42-37970226-7
Fax: +92-42-37970326

PROCEDURE FOR E-VOTING AND VOTING THROUGH BALLOT PAPER

In continuation to the **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)** of **MUGHAL IRON & STEEL INDUSTRIES LIMITED** ("the Company") scheduled to be held on October 28, 2023 at 11:45 a.m at Pearl Continental Hotel, Shahr-e-Quaid-e-Azam, Lahore, and in accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("the Regulations"), the right to vote through electronic voting facility ("E-voting") and voting by post ("Ballot Paper") is being provided to the members of the Company in respect of special business to be transacted at the AGM which can be used alternately. M/s. Digital Custodian Company Limited has been appointed as E-voting service provider.

PROCEDURE FOR E-VOTING:

1. The web address, login details and password will be communicated to members via email and the security codes will be communicated to members through Email/SMS from the web portal of E-voting Service Provider. These details will be shared with those members whose names will appear in the Register of Member of the Company by the close of business on October 18, 2023.
2. Identity of the Members intending to cast vote through E-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
3. Members shall cast their vote for Agenda Item No. 4, online at any time from October 25, 2023, 09:00 a.m. to October 27, 2023 till 05:00 p.m.
4. Once the vote has been casted by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

PROCEDURE FOR VOTING THROUGH BALLOT PAPER:

1. Duly filled and signed original Ballot Paper should be sent to the Chairman, Mr. Mirza Javed Iqbal, (Attention Company Secretary) Mughal Iron & Steel Industries Limited at 31-A, Shadman – 1, Lahore or a scanned copy of the original Ballot Paper to be emailed at: Chairman@mughalsteel.com.
2. Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the Ballot Paper.
3. Ballot Paper should reach Chairman of the meeting on or before October 27, 2023 during working hours. Any Ballot Paper received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on Ballot Paper should match with the signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten Ballot Papers will be rejected.
6. In case of corporate entity, Ballot Paper must be accompanied by the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature and copy of CNIC of the nominee etc. in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017, as applicable. In case of foreign body corporate, all documents must be attested by the Embassy of Pakistan.
7. Ballot Paper has also been placed on the website of the Company www.mughalsteel.com. Members may download the Ballot Paper from the website or use the original/photocopy published in the newspapers.

For **MUGHAL IRON & STEEL INDUSTRIES LIMITED**

S/d

MUHAMMAD FAHAD HAFEEZ
(Company Secretary)

Dated: October 20, 2023

BALLOT PAPER



MUGHAL IRON & STEEL INDUSTRIES LIMITED

Registered Office Address: 31-Shadman – 1, Lahore, Pakistan

Contact: +92-042-35960841-3,

Website: www.mughalsteel.com

Ballot Paper for voting through post for poll to be held on Saturday, October 28, 2023 at 11:45 AM at the Pearl Continental Hotel, Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore.

Contact details of Chairman, where Ballot Paper may be sent:

Business address: The Chairman, Mr. Mirza Javed Iqbal, Mughal Iron & Steel Industries Limited, 31-A Shadman-I, Lahore,

Attention: Company Secretary

Designated email address: Chairman@mughalsteel.com

Name of Shareholder/Joint Shareholders	
Registered Address	
Folio No. / CDC Participant Id / Investor Id with Sub-Account No.	
Number of Shares Held	
CNIC, NICOP/Passport No. (In case of foreigner) Copy to be attached	
<u>Additional Information and Enclosures</u> (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government)	
CNIC, NICOP/Passport No. (In case of foreigner) of Authorized Signatory (Copy to be attached)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through Postal Ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution(s) by placing tick (✓) mark in the appropriate box below (delete as appropriate).

Sr. #	Nature and description of Resolution	No. of Ordinary Shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (For)	I/We dissent to the Resolutions (Against)
1	<p>"RESOLVED that the transactions entered into by the Company with related parties during the year ended June 30, 2023 as disclosed in relevant notes to the financial statements in which some or majority of the directors are interested are hereby ratified and confirmed."</p> <p>"FURTHER RESOLVED that the Company be and is hereby authorized to enter into and carry out transactions in its normal course of the business from time to time with related parties during the ensuing year ending June 30, 2024. The members have noted that for the aforesaid transactions some or a majority of the directors may be interested. Notwithstanding the interest of the directors, the members hereby grant an advance authorization to the Board Audit Committee and the Board of Directors of the Company to review and</p>			

Sr. #	Nature and description of Resolution	No. of Ordinary Shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (For)	I/We dissent to the Resolutions (Against)
	<p>approve all related party transactions based on the recommendation of the Board Audit Committee.”</p> <p>“FURTHER RESOLVED that the related party transactions as aforesaid for the period ended June 30, 2024 would subsequently be presented to the members at the next Annual General Meeting for ratification and confirmation.”</p>			

Signature of Shareholder(s)

Place:

Date:

NOTES / PROCEDURE FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:

1. Duly filed and signed original Ballot Paper should be sent to the Chairman, Mr. Mirza Javed Iqbal, (Attention Company Secretary) Mughal Iron & Steel Industries Limited at 31-A, Shadman – 1, Lahore or a scanned copy of the original Ballot Paper to be emailed at: chairman@mughalsteel.com.
2. Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the Ballot Paper.
3. Ballot Paper should reach Chairman of the meeting on or before October 27, 2023 during working hours. Any Ballot Paper received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on Ballot Paper should be match the signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, in correct, defaced, torn, mutilated, over written Ballot Papers will be rejected.
6. In case of corporate entity, Ballot Paper must be accompanied by the Board of Directors’ resolution / power of attorney with specimen signature and copy of CNIC of the nominee etc. in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017, as applicable. In case of foreign body corporate, all documents must be attested by the Embassy of Pakistan.
7. Ballot Paper has also been placed on the website of the Company www.mughalsteel.com. Members may download the Ballot Paper the website or use original/photocopy published in newspapers.



MUGHAL IRON & STEEL INDUSTRIES LIMITED

PROCEDURE FOR E-VOTING AND VOTING THROUGH BALLOT PAPER

In continuation to the **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) of MUGHAL IRON & STEEL INDUSTRIES LIMITED** (“the Company”) scheduled to be held on October 28, 2023 at 11:45 a.m at Pearl Continental Hotel, Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore, and in accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (“the Regulations”), the right to vote through electronic voting facility (“E-voting”) and voting by post (“Ballot Paper”) is being provided to the members of the Company in respect of special business to be transacted at the AGM which can be used alternately. M/s. Digital Custodian Company Limited has been appointed as E-voting service provider.

PROCEDURE FOR E-VOTING:

- The web address, login details and password will be communicated to members via email and the security codes will be communicated to members through Email/SMS from the web portal of E-voting Service Provider. These details will be shared with those members whose names will appear in the Register of Member of the Company by the close of business on October 18, 2023.
- Identity of the Members intending to cast vote through E-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- Members shall cast their vote for Agenda Item No.4, online at any time from October 25, 2023, 09:00 a.m. to October 27, 2023 till 05:00 p.m.
- Once the vote has been casted by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

PROCEDURE FOR VOTING THROUGH BALLOT PAPER:

- Duly filled and signed original Ballot Paper should be sent to the Chairman, Mr. Mirza Javed Iqbal, (Attention Company Secretary) Mughal Iron & Steel Industries Limited at 31-A, Shadman – 1, Lahore, or a scanned copy of the original Ballot Paper to be emailed at: Chairman@mughalsteel.com.
- Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the Ballot Paper.
- Ballot Paper should reach Chairman of the meeting on or before October 27, 2023 during working hours. Any Ballot Paper received after this date, will not be considered for voting.
- Signature on Ballot Paper should match with the signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten Ballot Papers will be rejected.
- In case of corporate entity, Ballot Paper must be accompanied by the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature and copy of CNIC of the nominee etc. in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017, as applicable. In case of foreign body corporate, all documents must be attested by the Embassy of Pakistan.
- Ballot Paper has also been placed on the website of the Company www.mughalsteel.com. Members may download the Ballot Paper from the website or use the original/photocopy published in the newspapers.

MUHAMMAD FAHAD HAFEEZ

S/d
(Company Secretary)
Dated: October 20, 2023

BALLOT PAPER



MUGHAL IRON & STEEL INDUSTRIES LIMITED

Registered Office Address: 31-A, Shadman – 1, Lahore, Pakistan
Contact: +92-042-35960841-3, Website: www.mughalsteel.com

Ballot paper for voting through post for poll to be held on Saturday, October 28, 2023 at 11:45 AM at the Pearl Continental Hotel, Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore.

Contact details of Chairman, where ballot paper may be sent:

Business address: The Chairman, Mr. Mirza Javed Iqbal, Mughal Iron & Steel Industries Limited, 31-A, Shadman-I, Lahore,
Attention: Company Secretary

Designated email address: Chairman@mughalsteel.com

Name of Shareholder/Joint Shareholders	
Registered Address	
Folio No. / CDC Participant Id / Investor Id with Sub-Account No.	
Number of Shares Held	
CNIC, NICOP/Passport No. (In case of foreigner) Copy to be attached	
Additional Information and Enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government)	
CNIC, NICOP/Passport No. (In case of foreigner) of Authorized Signatory (Copy to be attached)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolution through Postal Ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution(s) by placing tick (✓) mark in the appropriate box below (delete as appropriate).

Sr. #	Nature and description of Resolution	No. of Ordinary Shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (For)	I/We dissent to the Resolutions (Against)
1.	<p>“RESOLVED that the transactions entered into by the Company with related parties during the year ended June 30, 2023 as disclosed in relevant notes to the financial statements in which some or majority of the directors are interested are hereby ratified and confirmed.”</p> <p>“FURTHER RESOLVED that the Company be and is hereby authorized to enter into and carry out transactions in its normal course of the business from time to time with related parties during the ensuing year ending June 30, 2024. The members have noted that for the aforesaid transactions some or a majority of the directors may be interested. Notwithstanding the interest of the directors, the members hereby grant an advance authorization to the Board Audit Committee and the Board of Directors of the Company to review and approve all related party transactions based on the recommendation of the Board Audit Committee.”</p> <p>“FURTHER RESOLVED that the related party transactions as aforesaid for the period ended June 30, 2024 would subsequently be presented to the members at the next Annual General Meeting for ratification and confirmation.”</p>			

Signature of Shareholder(s)

Place: _____

Date: _____

NOTES / PROCEDURE FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:

- Duly filled and signed original Ballot Paper should be sent to the Chairman, Mr. Mirza Javed Iqbal, (Attention Company Secretary) Mughal Iron & Steel Industries Limited at 31-A, Shadman – 1, Lahore or a scanned copy of the original Ballot Paper to be emailed at: Chairman@mughalsteel.com.
- Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the Ballot Paper.
- Ballot Paper should reach Chairman of the meeting on or before October 27, 2023 during working hours. Any Ballot Paper received after this date, will not be considered for voting.
- Signature on Ballot Paper should match with the signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
- Incomplete, unsigned, in correct, defaced, torn, mutilated, over written Ballot Papers will be rejected.
- In case of corporate entity, Ballot Paper must be accompanied by the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature and copy of CNIC of the nominee etc. in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017, as applicable. In case of foreign body corporate, all documents must be attested by the Embassy of Pakistan.
- Ballot Paper has also been placed on the website of the Company www.mughalsteel.com. Members may download the Ballot Paper from the website or use original/photocopy published in newspapers.

مغل آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹریز لمیٹڈ

طریقہ کار برائے ای۔وونگ اور وونگ بذریعہ بیلٹ پیپر

مغل آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹریز لمیٹڈ ("کمپنی") کے سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے تسلسل میں جو کہ 128 اکتوبر، 2023 کو صبح 11:45 بجے، پرنسپل ٹینٹیل ہوٹل، شاہراہ قائد اعظم، لاہور میں منعقد ہوگا اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 ("ریگولیشنز") کے مطابق، سالانہ اجلاس عام میں خصوصی امور کو انجام دینے کیلئے ممبران کو الیکٹرانک وونگ ("ای۔وونگ") اور ڈاک کے ذریعے وونگ ("بیلٹ پیپر") کی سہولت فراہم کی جارہی ہے، جو کہ ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر استعمال کی جاسکتی ہے۔ ممبرز ڈیجیٹل سگنچر کیلئے کمپنی لمیٹڈ کا تقرر شدہ ای۔وونگ سہولت کار کیا گیا ہے۔

ای۔وونگ کا طریقہ کار:

- ای۔وونگ کی سہولت کی تفصیلات مقررہ وقت پر کمپنی کے ان ممبران کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئر کر دی جائیں گی جن کے درست سی این آئی سی (CNIC) نمبر، بیل نمبر اور ای میل ایڈریس 18 اکتوبر، 2023 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں درج ہوں گے۔
- ای۔وونگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے ممبران کی شناخت کی تصدیق الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔
- ممبران 125 اکتوبر، 2023 صبح 09:00 بجے سے 27 اکتوبر، 2023 صبح 05:00 بجے تک کسی بھی وقت اپنی آئی ڈی نمبر 4 کیلئے اپنے ووٹ کا اندراج آن لائن کر سکتے ہیں۔
- ایک بار جب کسی ممبر کی جانب سے خصوصی قرارداد پر ووٹ ڈالا جائے گا تو بعد میں وہ اسے تبدیل نہیں کر سکا جائے گا۔

بیلٹ پیپر کے ذریعے وونگ کا طریقہ کار:

- درست طریقہ سے پُر شدہ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر چیئر مین، جناب مرزا جاوید اقبال (انٹیشن چیئر مین) کو بذریعہ ڈاک 31-A، شادمان-1، لاہور پر ارسال کریں یا الیکٹرانک خدہ بیلٹ پیپر کو ای میل ایڈریس، chairman@mughalsteel.com پر بھیج دیں۔
- CNIC / پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کی نقل بیلٹ پیپر کے ساتھ منسلک کریں۔
- بیلٹ پیپر 127 اکتوبر، 2023 تک، کاروباری اوقات کے دوران چیئر مین کو موصول ہونا چاہیے۔ مذکورہ تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی بیلٹ پیپر وونگ کیلئے قابل قبول نہیں ہوگا۔
- بیلٹ پیپر پر یکے کے دستخط کی شناختی کارڈ / پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پر موجود دستخط سے مماثلت لازمی ہے۔
- ناکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، منقطع، پھٹا ہوا، ناقص، اور دراز رنگ والا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔
- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف ایٹارنی کے ساتھ نمونہ کے دستخط اور نامزد شخص کے قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی وغیرہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعات 138 و 139 جیسا کہ قابل اطلاق ہوں، ان کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ غیر ملکی ہاؤس کارپوریٹ کی صورت میں، تمام دستاویزات کا سفارت خانہ پاکستان سے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے۔
- بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.mughalsteel.com پر بھی موجود ہے۔ اراکین بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبار میں شائع شدہ کی اصل / نقل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

تاریخ: 20 اکتوبر، 2023

محمد فہد حفیظ
کمپنی سیکرٹری

بیلٹ پیپر

مغل آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹریز لمیٹڈ

رجسٹرڈ آفس: 31-اے، شادمان-1، لاہور۔ رابطہ نمبر: 3-3596041-42-92+، ویب سائٹ: www.mughalsteel.com

بذریعہ ڈاک ووٹ ڈالنے کیلئے بیلٹ پیپر

بروز ہفتہ 128 اکتوبر 2023 صبح 11:45 بجے پرنسپل ٹینٹیل ہوٹل، شاہراہ قائد اعظم، لاہور میں بذریعہ پوسٹ وونگ کے لیے بیلٹ پیپر

بیلٹ پیپر ارسال کرنے کیلئے، چیئر مین سے رابطے کی تفصیل:

چیئر مین مغل آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹریز لمیٹڈ، 31-اے، شادمان-1، لاہور (انٹیشن: کمپنی سیکرٹری)

Chairman@mughalsteel.com

شیئر ہولڈر / شیئر کی شیئر ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ ایڈرس	
فولیو نمبر / سی ڈی سی پارٹیڈ پیسٹ آئی ڈی / انویسٹر آئی ڈی اور سب اکاؤنٹ	
شیئرز کی تعداد	
CNIC/NICOP / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (نقل منسلک کریں)	
اضافی معلومات و تلفواظ:	
ہاؤس کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندہ کی صورت میں	
مجاز دستخط کنندہ کا CNIC/NICOP / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (نقل منسلک کریں)	

میں/ہم مندرجہ ذیل قرارداد کے سلسلے میں بذریعہ پوسٹل بیلٹ اپوٹ استعمال کرتا/کرتی / کرتے ہیں اور ذیل میں دیئے گئے موزوں باکس میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر رضامندی یا اختلاف رائے سے آگاہ کرتا/کرتی / کرتے ہیں (مناسب طور پر حذف کریں)

نمبر شمار	قرارداد کی نوعیت اور تفصیل	ووٹ ڈالنے کیلئے عمومی شیئرز کی تعداد	میں/ہم اس قرارداد سے اظہار اختلاف کرتا/کرتی / کرتے ہیں	میں/ہم اس قرارداد سے اظہار اختلاف کرتا/کرتی / کرتے ہیں
1	"قرار پایا جاتا ہے کہ 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے دوران کمپنی کی طرف سے ریلیڈ پارٹیز کے ساتھ کئے گئے لین دین، جن کو مالیاتی گوشوارہ جات کے نوٹس میں بیان کیا گیا ہے اور جن میں کچھ یا زیادہ تر ڈائریکٹرز دلچسپی رکھتے ہیں، اس کی تصدیق و توثیق کی جاتی ہے۔"			
	"مزید قرار پایا جاتا ہے کہ کمپنی کو 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے دوران ریلیڈ پارٹیز کے ساتھ، کاروباری معمول کا لین دین کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے ممبران نے نوٹ کیا ہے کہ مذکورہ بالا لین دین میں کچھ یا زیادہ تر ڈائریکٹرز دلچسپی رکھ سکتے ہیں۔ ڈائریکٹرز کی دلچسپی کو نظر انداز کرتے ہوئے ممبران کمپنی کی بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارشات کی بنیاد پر تمام ریلیڈ پارٹیز ٹرانزیکشنز کا جائزہ لینے اور منظوری دینے کیلئے پیشگی اجازت دیتے ہیں۔"			
	"مزید قرار پایا جاتا ہے کہ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کیلئے مذکورہ بالا ریلیڈ پارٹیز ٹرانزیکشنز کو بعد میں توثیق کیلئے اگلے سالانہ اجلاس عام میں ممبران کے سامنے پیش کیا جائے گا۔"			

شیئر ہولڈر کے دستخط

مقام: _____

تاریخ: _____

پوسٹل بیلٹ جمع کرانے کا طریقہ کار / نوٹس

- درست طریقہ سے پُر شدہ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر چیئر مین، جناب مرزا جاوید اقبال کو بذریعہ ڈاک 31-A، شادمان-1، لاہور پر ارسال کریں یا الیکٹرانک خدہ بیلٹ پیپر کو ای میل ایڈریس، chairman@mughalsteel.com پر بھیج دیں۔
- CNIC / پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کی نقل پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک کریں۔
- بیلٹ پیپر 127 اکتوبر، 2023 تک، کاروباری اوقات کے دوران چیئر مین کو موصول ہونا چاہیے۔ مذکورہ تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی بیلٹ پیپر وونگ کیلئے قابل قبول نہیں ہوگا۔
- بیلٹ پیپر پر یکے کے دستخط کی شناختی کارڈ / پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پر موجود دستخط سے مماثلت لازمی ہے۔
- ناکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، منقطع، پھٹا ہوا، ناقص، اور دراز رنگ والا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔
- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف ایٹارنی کے ساتھ نمونہ کے دستخط اور نامزد شخص کے قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی وغیرہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعات 138 و 139 جیسا کہ قابل اطلاق ہوں، ان کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ غیر ملکی ہاؤس کارپوریٹ کے معاملے میں، تمام دستاویزات کا سفارت خانہ پاکستان سے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے۔
- بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.mughalsteel.com پر بھی موجود ہے۔ اراکین بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبار میں شائع شدہ کی اصل / نقل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔